

کے ساتھ برستا ہے ان بطش ربک لشعب

مسلمانوں کو انسانیت کے ناطے طوفان سے متاثر ہونے والوں کی مدد ضرور کرنی چاہئے لیکن یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قربانی کرنے کی بجائے قربانی کی رقم سونامی فنڈ میں دے دیں، یہ شرعاً و اخلاقاً درست نہیں۔ انسانیت کی خدمت کا ثواب سہی، لیکن قربانی کے جانوروں کی قیمت اس فنڈ میں جمع کرانے سے قربانی کا ثواب اور فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر ایسا ہوتا تو جناب رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ میں کئی زمینی آفات بھی آئیں اور جہاد تو مسلسل جاری رہا، لیکن کبھی بھی حضور ﷺ نے یہ حکم نہیں دیا کہ اس سال قربانی کرنے کی بجائے رقم جہادی فنڈ میں یا غربا کو دے دی جائیں۔

دراصل اسلام دشمن عناصر اسلامی شعائر کو مٹانے کے درپے ہیں اور وہی اس قسم کے شوٹے چھوڑتے رہتے ہیں۔ کبھی کہا جاتا ہے کہ ملک مقروض ہے اور مقروض لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس لئے قربانی نہ کریں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان کے مسلمانوں کو مقروض قرار دے کر قربانی نہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں انہوں نے کبھی یہ بھی کہا کہ چونکہ عوام مقروض ہیں اس لئے بجلی کے بل، ٹیلی فون کے بل، گیس کے بل، اور ٹیکسز کی ادائیگی ان مقروض عوام پر لازم نہیں۔ اور یہ کہ ازراہ ہمدردی و غم خواری جب تک قوم مقروض ہے اس وقت تک ان مقروضین کے تمام یوٹیلٹی بلز وہ اپنے خزانہ خاص سے ادا کریں گے؟

قربانی، سنت ابراہیمی و سنت مصطفوی ہے۔ یہ سنت اسی صورت ادا ہوگی جب اسے اس کی اسی ہیئت اور کیفیت کے مطابق ادا کیا جائے گا جو حضور ﷺ کی مقرر کردہ ہے۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو وہ اگر جہاد فنڈ میں یا متاثرین کے فنڈ میں قربانی کی نیت سے رقم دے گا تو اس سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوگا۔

سرحد حکومت کا قابل تعریف اقدام

روزنامہ نوائے وقت کراچی نے خبر دی ہے کہ صوبہ سرحد کی حکومت نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کے مطابق قیدیوں کو سال میں تین بار اپنی ازواج کو تین تین دن اپنے ساتھ جیل میں رکھنے کی اجازت دی ہے۔ اسی طرح ان کے چھوٹے بچے بھی ہر سہ ماہی میں تین تین دن اپنے قید والد کے ساتھ جیل میں رہ سکیں گے۔